

باب 10

ٹھوس اشکال کا اظہار

10.1 تعارف

ساتویں جماعت میں آپ مستوی شکلوں اور ٹھوس شکلوں کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ مستوی شکلوں کی لمبائی اور چوڑائی جیسی دو پیمائشیں ہوتی ہیں اس لیے انھیں دو ابعادی شکلیں کہتے ہیں، جب کہ ٹھوس شکلوں کی لمبائی، چوڑائی، اونچائی یا گہرائی جیسی تین پیمائشیں ہوتی ہیں۔ اس لیے ان شکلوں کو سہ ابعادی شکلیں کہتے ہیں۔ ساتھ ہی ٹھوس شے کچھ جگہ گھیرتی ہے۔ دو ابعادی اور سہ ابعادی شکلوں کو مختصراً 2-D اور 3-D شکلیں بھی کہا جاسکتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مثلث، مستطیل، دائرہ وغیرہ؛ 2-D شکلیں ہیں، جب کہ مکعب، اسطوانہ، مخروط، کرہ وغیرہ تین ابعادی شکلیں ہیں۔

اسے کیجیے

مندرجہ ذیل کامیلاں کیجیے: (آپ کے لیے پہلا میلان کیا ہوا ہے)

شکل کا نام	شکل کی قسم	شکل
کرہ	سہ ابعادی	
اسطوانہ	دو ابعادی	
مربع	سہ ابعادی	
دائرہ	دو ابعادی	

ایک دائرہ نما میدان کے ہمراہ دائرہ نما راستہ

(ii) ایک گہرا گڑھا یا نالا

ایک مربع کھیت سے متصل مثلثی کھیت

(iii) ایک کھلونہ

ایک اسطوانہ میں سے ایک مخروط کا لٹا۔

(iv) ایک دائرہ نما پارک

ایک مخروط پر موجود نصف کرہ۔

(v) ایک دوسرے پر سے گزرنے والے راستے

10.2 3-D اشکال کے منظر

آپ پڑھ چکے ہیں کہ 3-D اشیا مختلف مقاموں سے الگ الگ شکل کی دکھائی دے سکتی ہیں اس لیے ان کو مختلف نظریہ سے بنایا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر، ایک دی ہوئی جھوپڑی کے مندرجہ ذیل منظر ہو سکتے ہیں۔

اوپر

اوپر سے نظارہ

ایک جانب سے نظارہ

سامنے کا نظارہ

سامنے جھوپڑی ایک جانب

اسی طرح سے ایک گلاس کے مختلف نظارے ہو سکتے ہیں۔

اوپر سے نظارہ

ایک جانب سے نظارہ

گلاس

ایک گلاس کا اوپر سے نظارہ ہم مرکزی (Concentric) دائروں کا جوڑا کیوں لگتا ہے؟ اگر اسے مختلف سمت سے دیکھا جائے تو کیا ایک جانب سے نظارہ مختلف دکھائی دے گا؟ اس کے بارے میں سوچئے! اب ایک اینٹ کے مختلف نظاروں کو دیکھیے۔

کعب نما	سہ ابعادی	
مکعب	سہ ابعادی	
مخروط	دو ابعادی	
مثلث	سہ ابعادی	

غور کیجیے کہ درج بالا سبھی شکلیں واحد ہیں۔ جب کہ ہماری عملی زندگی میں کئی بار ہمارے سامنے مختلف شکلوں کا اختلاط ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر مندرجہ ذیل اشیاء پر غور کیجیے۔

آئس کریم
مخروط کے اوپر نصف کرہ

ڈبہ
ایک خول اسطوانہ

خیمہ
اسطوانہ پر ایک مخروط

ستون پر گنبد
اسطوانہ پر نصف کرہ

پیالہ
ایک نصف کرہ خول

فونو فریم
ایک مستطیل نما راستہ

مندرجہ ذیل تصویروں (اشیا) کا میلان ان کی شکلوں سے کیجیے:

اسے کیجیے

شکل
ایک مستطیل نما پارک کے اندر دو مستطیل نما راستے۔

تصویر (شے)
(i) ایک کھیتی کامیران

مشق 10.1

1. دیے گئے ہر ایک ٹھوس کے لیے دو منظر دیے گئے ہیں۔ ہر ایک ٹھوس کے لیے متعلقہ اوپر کے منظر اور سامنے کے منظر کا میلان کیجیے۔ ان میں سے پہلا حل آپ کے لیے کیا گیا ہے۔

(a) شے (i) سامنے کا منظر (ii) اوپر کا منظر


(b) بوتل (ii) (iii)

(c) باٹ (iii) (iv)




(d) تھرمس (iv) (v)

(e) پیالی اور طشتری (v) (vi)

ڈبہ



ہم مکعبوں کو جوڑ کر بنائی گئی شکلوں کے بھی مختلف نظارے دیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر



اسے کیجیے

اپنے ارد گرد کی مختلف چیزوں کا مختلف مقامات سے مشاہدہ کیجیے اور مختلف نظاروں پر اپنے دوستوں سے بات چیت کیجیے۔

3. دیے ہوئے ہر ایک ٹھوس میں اوپر کا منظر، سامنے کا منظر اور ایک جانب کے منظر کی پہچان کیجیے۔

(a) اوپر شے


ایک جانب سے



(iii)



(ii)




(i)

سا منے اوپر

(b)

ایک جانب سے



(iii)



(ii)




(i)

سا منے اوپر

(c)

ایک جانب سے



(iii)



(ii)



(i)

سا منے


اوپر

(d)

ایک جانب سے



(iii)



(ii)




(i)

سا منے


اوپر

(e)


ایک جانب سے



(iii)




(ii)



(i)

سا منے

2. دیے ہوئے ہر ایک ٹھوس کے لیے تین منظر دیے گئے ہیں۔ ان کے نظیری، اوپر کا منظر، سامنے کا منظر اور ایک طرف کے منظر کی پہچان کیجیے۔



ہم نقشوں کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ ایک نقشہ پڑھتے وقت ہم کیا نتیجہ نکال سکتے ہیں اور اس سے کیا سمجھ سکتے ہیں؟ ایک نقشہ میں کون سی اطلاعات ہوتی ہیں اور کون سی اطلاعات نہیں ہوتی ہیں؟ کیا یہ ایک تصویر سے کسی معنی میں مختلف ہے؟ اس حصے میں ہم ان سوالوں میں سے کچھ کے جوابات معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ کسی گھر کے نقشے کو دیکھیے جس کی شکل تصویر کے ساتھ ہی دی گئی ہے (شکل 10.1)۔

مندرجہ بالا مثال سے ہم کیا نتیجہ نکال سکتے ہیں؟ جب ہم کوئی تصویر بناتے ہیں تو ہم اس کی صاف طور پر دکھائی دینے والی معلومات کی سچائی کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب کہ ایک نقشہ کسی ایک شے کا دوسری مختلف اشیاء کے تعلق میں صرف مقام بتاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مختلف لوگ تصویروں کی ایک دوسرے سے بالکل مختلف تشریح کرتے ہیں اور وہ اس بات پر منحصر کرتا ہے کہ وہ گھر کو کس مقام سے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یہ ایک نقشہ کے معاملہ میں صحیح نہیں ہے۔ دیکھنے والے کا مقام کہیں بھی ہو مگر گھر کا نقشہ وہی رہتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ایک تصویر کھینچنے کے لیے نظریہ کی کافی اہمیت ہے لیکن یہ ایک نقشہ کے لیے موزوں نہیں ہے۔

اب نقشہ کو دیکھیے (شکل 10.2)، جو کہ سات سال کے بچے راگھو نے اپنے گھر سے اسکول تک کے راستے کے لیے کھینچا ہے:

میری بہن کا اسکول

میرا گھر

اس نقشہ کی مدد سے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ۔

(i) راگھو کا اسکول اس کے گھر سے کتنی دوری پر ہے؟

(ii) نقشہ میں ہر ایک دائرہ کیا ایک گول چکر کو ظاہر کرے گا؟

(iii) کس کا اسکول گھر سے زیادہ قریب ہے، راگھو کا یا اس کی بہن کا؟

میرا اسکول

شکل 10.2

دیے ہوئے نقشہ کو دیکھ کر درج بالا سوالوں کے جواب دینا بہت مشکل ہے۔ کیا آپ بتا سکتے

ہیں کیوں؟

اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ اس میں فاصلہ صحیح طریقہ سے کھینچے گئے ہیں یا کھینچے گئے دائرے گول چکر ہی ہیں یا کسی اور چیز کو ظاہر کرتے ہیں۔

اب ایک دوسرے نقشہ کو دیکھیے جو اس کی 10 سالہ بہن مینا نے اپنے گھر سے اپنے اسکول کا راستہ دکھانے کے لیے کھینچا ہے (شکل 10.3)

یہ نقشہ پچھلے نقشوں سے مختلف ہے۔ یہاں مینا نے الگ الگ (Landmark) کے لیے مختلف علامتوں کا استعمال کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بڑی دوریوں کے لیے لمبے قطعات خط کھینچے گئے ہیں اور چھوٹی دوریوں کے لیے چھوٹے قطعات خط کھینچے گئے ہیں۔ یعنی اس نے اس نقشہ کو ایک پیمانہ کے مطابق کھینچا ہے۔

شکل 10.3

گھر
دکان
اسکول
بزرگ
تالاب


ہسپتال

1/2 کلومیٹر

1/4 کلومیٹر

1 کلومیٹر


4. دی ہوئی اشیاء کے سامنے کا منظر، ایک جانب کا منظر اور اوپر کا منظر کھینچئے۔



10.3 ہمارے اطراف کی نقشہ سازی

آپ ابتدائی جماعتوں سے ہی نقشوں (Maps) کی مدد سے سیکھتے آئے ہیں۔ جغرافیہ میں آپ سے نقشہ پر ایک مخصوص صوبہ، ایک خاص ندی، پہاڑ وغیرہ کے مقام کو تلاش کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ تاریخ میں، آپ سے بہت پہلے ہوئے وقوع کے مقام کو بتانے کو یقیناً کہا گیا ہوگا۔ آپ نے ندیوں کے راستوں، سڑکوں، ریل کی پٹریوں، کاروباری جگہوں اور بہت سی دوسری چیزوں کی تصویر بنائی ہوگی۔

1. ایک شہر کے مندرجہ ذیل نقشے کو دیکھیے (شکل 10.5)۔




شکل 10.5

- (a) نقشے میں اس طرح رنگ بھرے: نیلا۔ پانی، لال۔ فائر اسٹیشن، نارنگی۔ لائبریری، پیلا۔ اسکول، ہرا۔ پارک، گلابی۔ کمیونٹی سینٹر، بیگنی۔ ہسپتال، بھورا۔ قبرستان۔
- (b) دوسری سڑک اور ایک مخصوص سڑک کے تقاطع پر ایک ہرا 'X' نشان لگائیے۔ جہاں ندی تیسری سڑک سے ملتی ہے وہاں ایک کالا 'Y' اور اصلی سڑک اور پہلی سڑک کے تقاطع پر ایک لال 'Z' نشان لگائیے۔
- (c) کالج سے جھیل تک کے لیے ایک چھوٹا گلی کا راستہ گھرے گلابی رنگ میں کھینچیے۔
2. اپنے گھر سے اپنے اسکول تک کے راستہ پر آنے والے مخصوص مقامات کو دکھاتے ہوئے ایک نقشہ کھینچیے۔

10.2 مشتق

- 1۔ ایک شہر کے دیے ہوئے نقشہ کو دیکھیے۔



اب آپ مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں:

- راگھوکا اسکول اس کے گھر سے کتنے فاصلہ پر ہے؟
- کس کا اسکول اس کے گھر سے زیادہ قریب ہے، راگھوکا یا مینا کا؟
- راستے میں کون کون سے مخصوص نشانات (Landmark) ہیں؟


اس طرح ہم یہ اندازہ کرتے ہیں کہ کچھ اشاروں (علامتوں) کا استعمال کرنے اور دوریوں کا تجزیہ کرنے سے ہمیں نقشہ کو پڑھنے میں مدد ملتی ہے۔ غور کیجیے کہ نقشہ پر دکھائی گئی دوریاں زمین کی اصل دوریوں سے متناسب ہیں۔ یہ ایک مناسب پیمانہ مان کر کیا گیا ہے۔ ایک نقشہ کو کھینچتے (یا پڑھتے) وقت یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ اسے کس پیمانہ سے کھینچا گیا ہے۔ (یا وہ کس پیمانہ سے کھینچا گیا ہے) یعنی کتنی اصل دوری کو نقشہ پر 1 ملی میٹر یا 1 سینٹی میٹر دوری سے ظاہر کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص ایک نقشہ کھینچتا ہے تو اسے طے کرنا پڑتا ہے کہ اس نقشہ میں 1 سینٹی میٹر مقام ایک معین دوری جیسے 1 کلومیٹر یا 10 کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ پیمانہ ایک نقشہ سے دوسرے نقشہ میں بدل سکتا ہے لیکن ایک ہی نقشہ میں نہیں بدلتا ہے۔ مثال کے طور پر ہندوستان کے نقشہ کو دہلی کے نقشہ کے ساتھ رکھ کر دیکھیے۔

آپ دیکھیں گے کہ جب یکساں سائز کے نقشوں کو مختلف پیمانوں کے مطابق کھینچا جاتا ہے تو دو نقشوں میں دوریاں بدل جاتی ہیں۔ یعنی دہلی کے نقشہ میں 1 سینٹی میٹر کی جگہ ہندوستان کے نقشہ کی دوریوں کے مقابلہ میں چھوٹی دوریوں کو ظاہر کرتی ہے۔ جگہ جتنی بڑی ہوگی اور کھینچے گئے نقشہ کا سائز جتنا چھوٹا ہوگا اتنی ہی زیادہ دوری 1 سینٹی میٹر کے ذریعہ ظاہر ہوگی۔ اس طرح مختصر طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ:


1. ایک نقشہ ایک خاص شے / جگہ کی دوسری شے / جگہ کے تعلق سے مقام (Location) دکھاتا ہے۔
2. مختلف اشیاء / جگہ کو دکھانے کے لیے علامتوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔
3. ایک نقشہ میں کوئی حوالہ یا نظریہ نہیں ہوتا یعنی؛ مشاہد کے قریب والی اشیاء اسی سائز میں دکھائی جاتی ہیں جتنی دور والی۔ مثال کے طور پر مندرجہ ذیل مثالوں کو دیکھیے (شکل 10.4)۔

شکل 10.4

4. نقشے میں ایک پیمانہ معین ہوتا ہے۔ جو ایک مخصوص نقشہ کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ یہ اصل دوریوں کو کاغذ پر متناسب طور پر کم کر دیتا ہے۔




یہ محدب کثیر سطحی شکل نہیں ہیں




یہ محدب کثیر سطحی شکل ہیں


کثیر سطحی شکل، غیر کثیر سطحی شکل سے کس طرح مختلف ہیں؟ اشکال کا مطالعہ غور سے کیجیے۔ آپ دوسرے عام ٹھوسوں کی تین مختلف قسموں کو جانتے ہیں۔



اسطوانہ




مخروط




کرہ

محدب کثیر سطحی شکلیں (پولی ہیڈرون): محدب کثیر ضلعی شکلوں کے تصور کو دہرائیے، محدب کثیر سطحی شکلوں کا تصور ایسا ہی ہے۔



یہ کثیر سطحی شکل (Polyhedrons) نہیں ہیں



یہ کثیر سطحی شکل (Polyhedrons) ہیں

منظم کثیر سطحی شکل: ایک کرہ کثیر سطحی شکل منظم کہلاتا ہے جب اس کے رخ منظم کثیر ضلعی کے بنے ہوئے ہوں اور ہر ایک راس پر ملنے والے رخوں کی تعداد یکساں ہے۔

یہ ایک منظم کثیر سطحی شکل نہیں ہے۔ سبھی رخ متماثل نہیں ہیں لیکن اس کے راس رخوں کی یکساں تعداد سے نہیں بنتے۔ A پر 3 رخ ملتے ہیں لیکن B پر 4 رخ ملتے ہیں۔

یہ ایک منظم کثیر سطحی شکل (Polyhedron) ہے۔ اس کے سبھی رخ متماثل اور منظم کثیر ضلعی ہیں اس کے راس رخوں کی یکساں تعداد سے بنتے ہیں۔



ہمارے آس پاس کثیر رخ خاندان کے دو اہم ممبر پرزم اور اہرام (Pyramids) ہیں۔

مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب دیجیے۔

- (a) اس نقشہ میں اس طرح رنگ بھریے: نیلا۔ پانی، لال۔ فائر اسٹیشن، نارنگی۔ لائبریری، پیلا۔ اسکول، ہر۔ پارک، گلابی۔ کالج، بیگنی۔ اسپتال، بھورا۔ قبرستان۔
 - (b) سڑک C اور نہر اور روڈ کے تقاطع پر ایک ہر 'X' اور گاندھی روڈ اور سڑک 'A' کے تقاطع پر ایک ہر 'Y' نشان لگائیے۔
 - (c) لائبریری سے بس ڈپونک ایک چھوٹا گلی کا راستہ لال رنگ سے بنائیے۔
 - (d) شہر کے مشرق سے کون زیادہ دور ہے پارک یا بازار؟
 - (e) کون زیادہ جنوب میں ہے، پرائمری اسکول یا سینئر سکندری اسکول؟
2. مختلف اشیاء کے لیے مناسب پیمانہ اور علامتوں کا استعمال کرتے ہوئے اپنی کلاس کے کمرے کا ایک نقشہ بنائیے۔
 3. مناسب پیمانہ اور علامتوں کا استعمال کرتے ہوئے مختلف جگہوں سے کھیل کا میدان، اصل بلڈنگ، باغیچہ وغیرہ کے لیے اپنے اسکول کے کمپاؤنڈ کا ایک نقشہ بنائیے۔
 4. اپنے دوست کو ہدایات دینے کے لیے کہ وہ آپ کے گھر بغیر کسی پریشانی کے کیسے پہنچے، ایک نقشہ بنائیے۔

10.4 رخ، کنارے اور راس

مندرجہ ذیل کثیر سطحی شکلوں کو دیکھیے!



راس

رخ

کنارا

مذکورہ بالا میں ہر ایک ٹھوس کثیر ضلعی خطوں سے بنا ہے جو اس کے رخ کہلاتے ہیں؛ اور یہ رخ کناروں پر ملتے ہیں جو قطعات خط ہیں؛ اور کنارے راسوں پر ملتے ہیں جو نقطے ہیں۔ ایسے ٹھوسوں (Polyhedrons) کو کثیر سطحی شکل کہتے ہیں۔

مشق 10.3

1. کیا کوئی کثیر سطحی اپنے رُخوں کے لیے مندرجہ ذیل رُخ رکھ سکتی ہے

(i) 3 مثلث؟ (ii) 4 مثلث؟

(iii) ایک مربع اور چار مثلث؟

2. کیا ایسا کثیر سطحی ممکن ہے جس کے رُخوں کی تعداد کوئی بھی عدد ہو؟ (اشارہ: ایک اہرام (Pyramid) کے بارے میں سوچیے۔)

3. مندرجہ ذیل میں کون سے پرزم ہیں؟

(i) (ii)

بغیر چھلی ہوئی پنسل

کیل

(iii) (iv)

ڈبہ

پیپر ویٹ

4. (i) پرزم اور اسطوانہ کس طرح سے ایک جیسے ہیں؟

(ii) اہرام اور مخروط کس طرح سے ایک جیسے ہیں؟

5. کیا مربع پرزم اور مکعب ایک جیسے ہوتے ہیں؟ تشریح کیجیے۔

6. مندرجہ ذیل ٹھوسوں کے لیے ایولر فارمولہ کی تصدیق کیجیے۔

(ii)

(i)

7. ایولر فارمولہ کا استعمال کرتے ہوئے نامعلوم کو معلوم کیجیے۔

20	5	؟	رُخ
12	؟	6	راس
؟	9	12	کنارے

8. کیا کسی کثیر سطحی (Polyhedron) کے 10 رُخ، 20 کنارے اور 15 راس ہو سکتے ہیں؟

یہ پرزم ہیں

یہ اہرام ہیں

ہم کہتے ہیں کہ ایک پرزم کثیر رُخی ہوتا ہے۔ جس کا قاعدہ اور اوپری سرا (Top) متماثل کثیر رُخی ہوں اور جس کے دوسرے رُخ، یعنی خیمیدہ رُخ (Lateral faces) شکل میں متوازی الاضلاع ہیں۔

دوسری طرف ایک پرامڈ (Pyramid) وہ کثیر رُخی ہوتا ہے جس کا قاعدہ ایک کثیر ضلعی ہوتا ہے (کتنے بھی اضلاع والا) اور جس کے خیمیدہ رُخ ایک مشترک راس والے مثلث ہوتے ہیں۔ (اگر آپ ایک کثیر ضلعی کے سبھی کونوں یا راسوں کو ایک ایسے نقطہ سے ملا دیں جو اس کی مستوی میں نہ ہو تو آپ کو ایک پرامڈ (Pyramid) کا ماڈل حاصل ہوتا ہے۔

ایک پرزم یا پرامڈ کو اس کے قاعدہ کے مطابق نام دیا جاتا ہے۔ اس طرح ایک مسدسی پرزم (Hexagonal) کا قاعدہ ایک مسدس ہوتا ہے؛ اور ایک مثلثی پرامڈ کا قاعدہ مثلث ہوتا ہے۔ پھر ایک مستطیل نما پرزم کیا ہے؟ ایک مربع پرامڈ کیا ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ ان کے قاعدہ بالترتیب مستطیل اور مربع ہیں۔

اسے کیجیے

مندرجہ ذیل کثیر سطحوں (رُخوں) کے لیے، کناروں اور راسوں کی تعداد کو جدول کی شکل میں لکھیے: (یہاں 'V'، راسوں کی تعداد، 'F' رُخوں کی تعداد اور 'E' کناروں کی تعداد کو ظاہر کرتا ہے)۔

ٹھوس	F	V	E	F + V	E + 2
کعب نما مثلثی پرامڈ مثلثی پرزم پرامڈ جس کا قاعدہ مربع ہے پرزم جس کا قاعدہ مربع ہے					

آپ آخری دو کالموں سے کیا نتیجہ نکالتے ہیں؟ ہر حالت میں آپ کیا پاتے ہیں $F + V = E + 2$ ؟ یعنی $F + V - E = 2$ ؟ اس رشتہ کو ایولر کا فارمولہ (Euler's formula) کہتے ہیں۔ حقیقت میں یہ فارمولہ کسی بھی کثیر سطحی کے لیے صحیح ہے۔

سوچیے، بحث کیجیے اور لکھیے

اگر ہم کسی ٹھوس کے کچھ حصوں کو کاٹ کر نکال دیں تو F، V اور E پر کیا اثر پڑے گا؟ (آپ شروعات میں لوچ دار مادے کا پلاسٹین (Plasticine) کعب لے سکتے ہیں اس کے ایک کونے کو کاٹیں اور چھان بین کیجیے۔)

ہم نے کیا سیکھا؟

1. 2-D اور 3-D اشیا کو پہچاننا۔
 2. مخلوط اشیا میں مختلف شکلوں کو پہچاننا۔
 3. 3-D اشیا کے مختلف مقاموں سے مختلف مناظر ہوتے ہیں۔
 4. نقشہ تصویر سے مختلف ہوتا ہے۔
 5. ایک نقشہ ایک خاص شے / جگہ کو دوسری شے / جگہ کے تعلق میں صحیح صحیح مقام دکھاتا ہے۔
 6. مختلف اشیا / جگہوں کو دکھانے کے لیے علامتوں استعمال کیا جاتا ہے۔
 7. ایک نقشہ میں کوئی حوالہ / نظریہ نہیں ہوتا۔
 8. نقشہ میں ایک پیمانہ معین ہوتا ہے جو ایک مخصوص نقشہ کے لیے ایک ہی رہتا ہے۔
 9. کسی بھی کثیر زخی کے لیے فارمولہ،
- ہے $F + V - E = 2$
- جہاں 'F' رُخوں کی تعداد 'V' راسوں کی تعداد اور 'E' کناروں کی تعداد کو دکھاتا ہے۔ یہ رشتہ ایولر کا فارمولہ کہلاتا ہے۔